

COVID-19 ویکسین کون لگوا سکتا ہے؟

12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً تمام افراد COVID-19 ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی کیفیت کا سامنا ہے تو آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں:

- | | | |
|---|---|------------------|
| ✓ ماضی میں خون کے لوتھڑے بننے کا سامنا ہوا ہے | ✓ جگر کی بیماری | ✓ ذیابیطس |
| ✓ COVID-19 انفیکشن پہلے ہی ہو چکی ہے | ✓ خوراک کی الرجیاں | ✓ دمہ |
| ✓ صحت کے دیگر مسائل | ✓ موسمی الرجیاں جیسے پولن الرجی | ✓ سرطان / کینسر |
| ✓ یا حمل سے ہیں، چھاتی کا دودھ پلا رہے ہیں یا حمل سے ہونے کا ارادہ ہے | ✓ منہ کے راستے استعمال کی جانے والی ادویات سے الرجیاں | ✓ دل کا عارضہ |
| | | ✓ HIV |
| | | ✓ گردے کی بیماری |



واحد وجہ جس کے باعث آپ COVID-19 کی ویکسین نہ لگوا پائیں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو ویکسین میں موجود اجزاء میں سے کسی سے شدید الرجی ہو یا کسی اور ویکسین یا ٹیکے کے ذریعے دی جانے والی دوا سے شدید الرجی ہوئی ہو۔ اگر آپ کو الرجی ہے یا پہلے الرجی ہوئی تھی تو تب بھی آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے پہلے آپ کو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کر لینی چاہیے۔ COVID-19 ویکسینوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے QR کوڈ کو اسکین کریں۔

COVID-19 کی ویکسینوں میں پریزروپٹیوز، لیٹکس، انڈے، پارہ، جنینی ٹشو یا انسانی خلیے، جیلیٹن یا جانوروں کی دیگر مصنوعات، اینٹی بائیوٹکس، یا مائیکرو چپس موجود نہیں ہیں۔ ہر ویکسین کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، nyc.gov/health/covidvaccine ملاحظہ کریں، "Additional Resources" (اضافی وسائل) کے ٹائٹل والا سیکشن تلاش کریں اور "Download/Read" (ڈاؤن لوڈ کریں/پڑھیں) ڈراپ ڈاؤن مینو میں "Understanding the COVID-19 Vaccines" (COVID-19 ویکسینوں کو سمجھنا) دیکھیں۔

COVID-19 ویکسینیں محفوظ ہیں اور آپ اور آپ کے خاندان، دوستوں اور کمیونٹی کو COVID-19 سے محفوظ رکھتی ہیں۔ آج ہی ویکسین لگوائیں!

اگر ویکسین لگوانے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں! مزید معلومات اور وسائل کے لیے nyc.gov/covidvaccine پر جائیں۔

صورت حال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے NYC محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔
9.9.21

**NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY**

NYC
Health